



### سٹی آف برامپٹن ادائیگیوں کے نقد رقوم کے علاوہ دوسرے محفوظ اور آسان طریقوں سے پر منتقل ہو گا

برامپٹن، آن (3 جولائی 2020) – پچھلے ہفتے اپنی میٹنگ میں، برامپٹن سٹی کونسل نے اپنے طریقہ کار میں بہتریاں لانے کے بہترین اور حفاظتی اقدامات کے ایک حصے کے طور پر پراپرٹی ٹیکسز اور بلڈنگ ڈویژن کی فیسوں کی وصولی کے لیے نقد رقم کے بغیر ادائیگی کرنے کے ایک نئے طریقہ کار کی منظوری دی۔

رہائشیوں، کاروبار کے مالکان اور ملازمین کے درمیان محفوظ تر معاشی لین دین کے لیے، 1 جنوری 2021 سے شروع کرتے ہوئے، سٹی درج ذیل طریقوں سے پراپرٹی ٹیکس اور بلڈنگ ڈویژن کی فیسیں موصول کرے گا، کیونکہ نقد ادائیگیاں قبول نہیں کی جائیں گی:

- پیشگی اجازت شدہ ادائیگیاں
- آن لائن بینکنگ
- فون بینکنگ
- ذاتی بینک برانچز کے ذریعے بالمشافہ ادائیگیاں
- ڈیبٹ کارڈ سے بالمشافہ ادائیگیاں
- کریڈٹ کارڈ سے بالمشافہ ادائیگیاں (صرف بلڈنگ فیسیں)

موجودہ طور پر، نوجوانوں اور بزرگ شہریوں کے لیے رسائی کو یقینی بنانے کے لیے، ان تبدیلیوں کا اطلاق صارفین کی دیگر اقسام کی فیسوں، لائسنسز اور چارجز پر نہیں ہو گا۔ اس میں تفریحی سہولیات، POA کورٹ کی فیسیں، اینیمل سروسز اور پرفارمنگ آرٹس شامل ہیں۔

ایک اچھی طرح چلنے والا اور صحت مند و محفوظ شہر بننے کی کونسل کی ترجیحات کے مطابق، بلا نقد رقم ادائیگیاں لین دین کو مکمل کرنے کے ایک آسان اور محفوظ طریقے کی سہولت فراہم کرتی ہیں۔

### پس منظر

- نقد رقم کو ادائیگی کے طریقے کے طور پر استعمال کرنا کئی مسائل کے ساتھ آتا ہے، مثلاً چوری اور ڈاکے کا خطرہ، جعلی نوٹوں کو قبول کرنے کا خطرہ اور کرنسی کو جسمانی طور پر چھونے سے جڑے طبی خطرات۔
- پراپرٹی کے مالکان کی ایک بہت تھوڑی تعداد نے نقد رقوم سے ادائیگیاں کیں – جبکہ زیادہ تر ادائیگیاں پیشگی طور پر اجازت شدہ ٹیکس کی ادائیگیوں (PTP)، آن لائن بینکنگ، ٹیلیفون بینکنگ، چیکس یا الیکٹرانک فنڈز ٹرانسفر (EFT) کی صورت میں کی گئیں۔ بلڈنگ ڈویژن فیسوں کے لیے نقد رقم کی ادائیگیوں کے متعلق بھی اسی طرح کا رجحان پایا گیا۔

### میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال  
کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ  
اسٹریٹیجک کمیونیکیشن  
سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)